

# الكتاب، القرآن، الفرقان، البرهان

خالد مہاجرزادہ

☆☆☆☆☆ الفاتحة ☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1/1﴾

☆. اللَّهُ (2,697) (مادہ .ال ل ل ه) -Allah- اَلِ اِلَٰهًا خَاصًّا اِلَٰهًا لِعَنَى اِلَٰهًا وَّاحِدًا

اللہ کی پہلی صفت جو تمام صفات کا مجموعہ ہے۔

☆. الرَّحْمَنِ (57) (55/1) (مادہ .رح م. رحم (339)۔) شفیق

اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ کی دوسری صفت جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ الرَّحْمَن (انسان کی ذہنی اور فکری نشوونما کے لئے بنیادی صفت) ہے۔

الرَّحْمَنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ (4-54/1)

○ الرَّحْمَنُ ○ القرآن کا علم دیا۔ ○ الانسان کو تخلیق کیا ○ اس (الانسان) کو البیان کا علم دیا۔ ○

القرآن: انسان کو بذریعہ الرحمان ملنے والی ہدایت۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ..... ○ (2/185)

ماہ رمضان! وہ جس میں القرآن انسانوں کی ہدایت کے لئے الہدیٰ اور الفرقان کی بیانات میں سے نازل ہوا۔۔۔۔۔ ○

☆-رح م۔ مادے سے بننے والے، رحمن صفت والے 3 الفاظ جو الکتاب میں 58 دفعہ آئے ہیں۔

1	الرَّحْمَنُ (س)	47	41/2	ال + رَحْمَنُ	الرحمان
2	بِالرَّحْمَنِ	3	13/30	ب + ال + رَحْمَنُ	ساتھ، الرحمان (کے)
3	لِلرَّحْمَنِ	8	25/26	ل + ال + رَحْمَنُ	کے لئے، الرحمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1/1﴾

☆. الرَّحِيمِ (95) (2/37) (مادہ .رح م. رحم (339) رحمت: رحیم:

اللہ کی تیسری صفت جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ الرَّحِيمِ (تمام غلطیوں (تخریب برائے تخریب) کو ختم کرنے کا طریقہ بتانے والا) ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ (2/37)

○ پھر آدم کو اس کے رب کی طرف سے کلمات التاء کئے گئے اُس نے ان کے ذریعے توبہ کی۔ بے شک وہ (رب) توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔

☆-رح م۔ مادے سے رحیم صفت والے 23 الفاظ جو الکتاب میں 247 دفعہ آئے ہیں۔

1	رَحِيمٌ . رَحِيمٌ	34	3/89	رَحِيمٌ	رحیم ہونا
2	رَحِيمٌ . رَحِيمٌ	60	24/22	رَحِيمٌ	رحیم ہونا
3	الرَّحِيمِ	34	2/128	ال + رَحِيمِ	خاص، رحیم ہونا

4	رَحِيمًا	20	33/43	رَحِيمًا + ا	رحیم ہونا
5	رَحِمَ	4	44/42	رَحِمَ	اس نے رحم کیا
6	رَحِمَهُ	1	6/16	رَحِمَهُ + ه	اس نے رحم کیا، اس پر
7	رَحِمَنَا	1	67/28	رَحِمَنَا + نَا	اس نے رحم کیا، ہم پر
8	رَحِمْنَهُمْ	1	23/57	رَحِمْنَا + نَا + هُمْ	رحم کیا، ہم نے، ان پر
9	رُحِمًا	1	18/81	رُحِمًا + ا	رحم کرنا
10	رُحِمَاءُ	1	48/29	رُحِمًا + آء	رحم کرنے والے
11	وَيَرْحَمُ	1	29/21	وَايَ + رَحِمُ	وہ رحم کرے گا
12	يَرْحَمُكُمْ . يَرْحَمُكُمْ	2	17/54	يَا + رَحِمُ + كُمْ	وہ رحم کرے گا، تم پر
13	يَرْحَمَنَا	1	7/149	يَا + رَحِمُ + نَا	وہ رحم کرے گا، ہم پر
14	سَيَرْحَمُهُمْ	1	9/71	سَايَ + رَحِمُ + هُمْ	یقیناً، وہ رحم کرے گا، ان پر
15	أَرْحَمَ . إَرْحَمَ	4	21/83	أَرْحَمَ	رحم کر!
16	وَأَرْحَمَ	1	23/118	وَايَ + رَحِمَ	اور رحم کر!
17	وَأَرْحَمْنَا	3	2/286	وَايَ + رَحِمَ + نَا	رحم کر، ہم پر!
18	إَرْحَمَهُمَا	1	17/24	إَرْحَمَ + هُمَا	رحم کر، اُن دونوں پر!
19	الرَّاحِمِينَ	6	12/64	الْ + رَاحِمِينَ	خاص، رحم کرنے والے
20	وَتَرْحَمَنَا	1	7/23	وَايَ + رَحِمَ + نَا	اور تو رحم کرے گا، ہم پر
21	وَتَرْحَمْنِي	1	11/47	وَايَ + رَحِمَ + نِي	اور تو رحم کرے گا، مجھ پر
22	تُرْحَمُونَ	8	3/132	تُرْحَمُونَ + وُنَ	تم پر رحم کیا جائے گا
23	رَحْمَتَ . رَحْمَتِ . رَحْمَتُ	6	2/218	رَحْمَتَ + تَ	رحمت
24	وَرَحْمَتُ	1	43/32	وَايَ + رَحِمَ + تَ	اور رحمت
25	رَحْمَتِكَ	1	7/151	رَحْمَتِكَ + كَ	رحمت تجھ پر
26	بِرَحْمَتِكَ	2	10/86	بِ + رَحْمَتِكَ + كَ	تیری رحمت کے ساتھ
27	رَحْمَتِنَا	4	21/75	رَحْمَتِنَا + نَا	رحمت ہماری
28	بِرَحْمَتِنَا	1	12/56	بِ + رَحْمَتِنَا + نَا	ساتھ رحمت ہماری
29	رَحْمَتِهِ . رَحْمَتُهُ	16	7/57	رَحْمَتِهِ + هِ	رحمت اُس کی
30	وَرَحْمَتُهُ	7	2/64	وَايَ + رَحِمَ + تَ + هُ	اور رحمت اُس کی
31	بِرَحْمَتِهِ	2	2/105	بِ + رَحْمَتِهِ + هِ	ساتھ رحمت اُس کی
32	وَبِرَحْمَتِهِ	1	10/58	وَايَ + بِ + رَحِمَ + تَ + هِ	اور ساتھ رحمت اُس کی
33	رَحْمَتِي	1	29/23	رَحْمَتِي + يَ	رحمت میری
34	وَرَحْمَتِي	1	7/156	وَايَ + رَحِمَ + تَ + يَ	اور رحمت میری

35	رَحْمَةً	34	3/8	رَحْمَ + ة	رحمتہ
36	بِرَحْمَةٍ	7	7/49	ب + رَحْمَ + ة	رحمتہ کے ساتھ
37	الرَّحْمَةَ	6	6/12	ال + رَحْمَ + ة	خاص رحمتہ
38	لرَّحْمَةٍ	1	29/51	ل + رَحْمَ + ة	رحمتہ کے لئے
39	وَرَحْمَةً	24	2/157	و + رَحْمَ + ة	رحمت
40	بِالْمَرْحَمَةِ	1	90/17	ب + ال + م + رَحْمَةِ	ساتھ خاص مکمل رحمت کے
41	أَرْحَامُ	2	6/143	أَرْحَامُ	أَرْحَامُ (ماں کا رحم)
42	أَرْحَامِكُمْ	2	47/22	أَرْحَامُ + كُمْ	ارحام، تمہارے
43	أَرْحَامِهِنَّ	1	2/228	أَرْحَامُ + هِنَّ	ارحام، اُن عورتوں کے
44	الْأَرْحَامِ . الْأَرْحَامِ	6	3/6	ال + أَرْحَامِ	خاص ارحام
45	وَالْأَرْحَامِ	1	4/1	و + ال + أَرْحَامِ	اور خاص ارحام

☆ عربی زبان میں فعل کے ہر صیغے میں ایک ضمیر ہوتی ہے اور مادے میں مذکر واحد غائب کی ضمیر مخفی ہوتی ہے۔ **إِلَہ** اسم ہے، لہذا اس کے بعد ضمیر لگا کر اس کی صفت تبدیل کی گئی ہے۔ ضمیروں (Pronouns)، کی تین اقسام ہیں۔ جن سے فعل متکلم، فعل مخاطب اور فعل غائب بنتے ہیں۔

متکلم (1st Person)۔ (میں، ہم)	مخاطب (2nd Person)۔ (تو، تم دونوں، تم سب)	غائب (3rd Person)۔ (وہ، وہ دونوں، وہ سب)
-------------------------------	---	--

ضمیر مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مونث بھی، واحد بھی اور جمع بھی۔ عربی کے لئے بھی یہی قواعد ہیں، صرف اضافہ ہے اور وہ یہ کہ عربی میں دو کے لئے تثنیہ (مذکر اور مونث) کا الگ صیغہ ہے۔

☆ اسم یا فعل کے بعد یہ ضمیریں آئیں گی اور ان سے جڑی (مُتَّصِل) ہوں گی۔

ی (میں)۔ نَا (ہم)۔ كَ (تو)۔ كَمَا (تم دونوں)۔ كُمْ (تم سب)۔ هُ (وہ)۔ هُمَا (وہ دونوں)۔ هُمْ (وہ سب)۔

ی (میں)۔ نَا (ہم)۔ كِ (تو عورت)۔ كُمَّ (تم دونوں)۔ كُنَّ (تم سب عورتیں)۔ هَا (وہ عورت)۔ هُمَا (وہ دونوں)۔ هُنَّ (وہ سب عورتیں)

☆ اسم یا فعل سے پہلے یہ ضمیریں آئیں گی اور ان سے علیحدہ (مُنْفَصِل) ہوں گی۔

أَنَا (میں)۔ نَحْنُ (ہم دونوں)۔ نَحْنُ (ہم سب)۔ أَنْتَ (تو)۔ أَنْتَمَا (تم دونوں)۔ أَنْتُمْ (تم سب)۔ هُوَ (وہ)۔ هُمَا (وہ دونوں)۔ هُمْ (وہ سب)۔

أَنَا (میں)۔ نَحْنُ (ہم دونوں)۔ نَحْنُ (ہم سب)۔ أَنْتِ (تو عورت)۔ أَنْتُمَا (تم دونوں)۔ أَنْتُنَّ (تم سب عورتیں)۔ هِيَ (وہ)۔ هُمَا (وہ دونوں)۔ هُنَّ (وہ سب عورتیں)۔

سب عورتیں)۔

يُنْ . وُنْ . ( جمع بنانے کے لئے فعل کے آخر میں لگتے ہیں )